

جشن صد ساله منظر اسلام بریلی شریف مبارک

کفر الایمان پر اعراضات کا علمی حسابہ کفر الایمان پر اعراضات کا علمی حسابہ کفر الایمان پر اعراضات کا علمی حسابہ

کفر الایمان پر اعراضات کا علمی حسابہ کفر الایمان پر اعراضات کا علمی حسابہ کفر الایمان پر اعراضات کا علمی حسابہ

کفر الایمان پر اعراضات کا علمی حسابہ کفر الایمان پر اعراضات کا علمی حسابہ کفر الایمان پر اعراضات کا علمی حسابہ

کفر الایمان پر اعراضات کا علمی حسابہ کفر الایمان پر اعراضات کا علمی حسابہ کفر الایمان پر اعراضات کا علمی حسابہ

کفر الایمان پر اعراضات کا علمی حسابہ کفر الایمان پر اعراضات کا علمی حسابہ کفر الایمان پر اعراضات کا علمی حسابہ

کفر الایمان پر اعراضات کا علمی حسابہ کفر الایمان پر اعراضات کا علمی حسابہ کفر الایمان پر اعراضات کا علمی حسابہ

کفر الایمان پر اعراضات کا علمی حسابہ کفر الایمان پر اعراضات کا علمی حسابہ کفر الایمان پر اعراضات کا علمی حسابہ

کفر الایمان پر اعراضات کا علمی حسابہ کفر الایمان پر اعراضات کا علمی حسابہ کفر الایمان پر اعراضات کا علمی حسابہ

کفر الایمان پر اعراضات کا علمی حسابہ کفر الایمان پر اعراضات کا علمی حسابہ کفر الایمان پر اعراضات کا علمی حسابہ

کفر الایمان پر اعراضات

کا علمی حسابہ

حضرت خواجہ شمس الدین حسین بن علی رضی اللہ عنہ
بسیار نشیں آشناز عالیہ
فضل سرگودھا

رضے اکبری - لاہور

جشن صد سالہ منظراً اسلام بریلی شریف مبارک

کنز الایمان پر اعتراضات

کا

علمی محاسبہ

حضرت خواجہ غلام حمید الدین سیاللوی مدظلہ
سجادہ نشین آستانہ عالیہ سیال شریف
صلح سرگودھا

رضا اکیڈمی ، لاہور

مقدمہ

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جس نے تمام انسانیت کی ہدایت کے لئے قرآن کریم نازل کیا، صلوٰۃ وسلام ہو تمام انبیاء و مرسیین سے افضل و اعلیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ ﷺ پر، آپ کی آل، صحابہ کرام اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں پر۔
حمد و شکر کے بعد! قرآن کریم وہ سرچشمہ ہدایت ہے جس سے مسلمانوں نے ماضی میں ہدایت حاصل کی، اس وقت بھی ہدایت حاصل کر رہے ہیں اور قیامت تک تو اور ہدایت حاصل کرتے رہیں گے۔ عربی زبان کو قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کے جیبی محمد مصطفیٰ ﷺ کی بدولت فضیلت و شرافت حاصل ہے۔ وہ مسلمان کتنے خوش قسمت ہیں جو اس شیریں زبان کے سمجھنے کی سعادت سے بہرہ ور ہیں، کیونکہ وہ قرآن کریم کے معانی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی نسبت قرآن پاک کے اعجاز کے جمال سے زیادہ اور براہ راست مستفید ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ کروڑوں افراد ایسے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے ہیں مگر اس کے معانی کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔

یاد رہے کہ عجم کے بہت سے علماء نے اپنی تمام توانائی قرآن کریم کے معانی کی گہرائی تک پہنچنے کے لئے صرف کر دی، انہوں نے بڑے قیمتی اور علمی کام سرانجام دئے گوکہ عربی ان کی مادری زبان نہ تھی تاہم انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن پاک کی تعلیمات کے عام کرنے میں پوری ذمہ داری سے حصہ ڈالا، ان کی یہ حصہ داری ان کی تصانیف، ان کے خطابات اور لوگوں کی ساتھ گفتگوؤں میں دیکھی جاسکتی

﴿ سلسلہ اشاعت نمبر 184 ﴾

کتاب	کنز الایمان پر اعتراضات کا علمی محاسبة (شاہ فہد کے نام کھلا مکتوب)
مکتب	حضرت خواجہ غلام حمید الدین سیالوی مدظلہ العالی ماہنامہ ضیائے حرم شمارہ جنوری ۱۹۸۳ء
اشاعت باراول	اشعاعت باراول ۱۴۲۲ھ / ۲۰۰۱ء
اشاعت بار دوم	النظمیہ کپوزنگ سٹریٹو ہاری دروازہ لاہور رضا اکیڈمی لاہور
کمپوزنگ	رضا اکیڈمی لاہور دعائے حق معاونین رضا اکیڈمی رجسٹرڈ، لاہور
ناشر	احمد سجاد آرٹ پر لیس، لاہور عطیات سمجھنے کے لئے
ہدیہ	رضا اکیڈمی اکاؤنٹ نمبر ۹۳۸/۳۸ جیبی بک و سن پورہ برائی، لاہور
طبع	بذریعہ ڈاک طلب کرنے والے حضرات 10 روپے کے ڈاک ملک ارسال کریں

ملئے کا پتا

رضا اکیڈمی (رجسٹرڈ)

مسجد رضا محبوب روڈ، چاہ میراں، لاہور، پاکستان کوڈ نمبر ۵۳۹۰۰
فون نمبر 7650440

ہے۔ لیکن بعض علماء نے گھرے غور و فکر کے بعد فصلہ کیا کہ قرآن کریم کے معانی کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا جائے، تاکہ جو مسلمان عربی زبان سے بالکل نابلد ہیں وہ اپنی استطاعت کے مطابق قرآن کے معانی سے بہرہ ور ہو جائیں اور معانی کے سچھے بغیر اس کی تلاوت نہ کریں، اردو کی یہ سعادت ہے کہ یہ بھی ان زبانوں میں سے ایک ہے جن میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا گیا، بلکہ دنیاۓ اسلام میں سے اس کے قیمتی درشی کی بناء پر قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔

ہندوستان کے متعدد علماء نے قرآن کریم کا اردو میں ترجمہ کیا، امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ مذہبی حنفی، طریقۂ قادری اور طن کے لحاظ سے بریلوی اور ہندی تھے، انہیں پچھن علوم و فنون میں مہارت کاملہ حاصل تھی، وہ صحیح معنوں میں قرآن کریم کا اردو زبان میں ترجمہ کرنے کے لائق تھے، انہوں نے ترجمہ کیا اور ترجمہ کرتے وقت خاص طور پر دو چیزوں کو سامنے رکھا:

۱.....اللہ تعالیٰ کا تقدیس اور تمام نقائص و عیوب سے پاک ہو۔

۲.....رسول اللہ ﷺ اور دیگر انبیاء کرام کی تعظیم و تکریم، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے معانی کا ترجمہ کرنے والے بعض مترجمین اسلامی علوم اور عربی زبان میں مہارت حاصل کئے بغیر لغت کی کتابوں (ڈاکشنریوں) پر اعتماد کرتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور کبھی نبی اکرم ﷺ کے دربار میں گستاخی کے مرتكب ہوتے ہیں، لیکن امام احمد رضا خان بریلوی نے تمام تراحتیاط کے ساتھ قرآن کریم کا ترجمہ کیا، انہیں عربی اور اردو زبان ہی نہیں دیگر اسلامی علوم میں بھی مہارت کاملہ حاصل تھی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، پھر اسلامی اور عربی علوم میں مہارت تامہ کی بناء پر ان کی کوششوں میں

توفیق الہی شامل تھی، یہ ترجمہ دوسرے ترجم کے مقابلے میں دینی اور ادبی اعتبار سے ممتاز ہے، اللہ تعالیٰ انہیں قرآن کریم، اور پاک و ہند، بلکہ دلیش اور دنیا کے دیگر ممالک میں اردو و ان حضرات کی طرف سے جزاً خبر عطا فرمائے، ان تین ممالک کے لوگ دنیا بھر میں اس شان کے ساتھ موجود ہیں کہ انہوں نے اپنے انداز و اطوار ہی نہیں بلکہ اردو زبان کی بھی حفاظت کی ہے۔

حضرت مولا ناسید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ اనے اس ترجمہ ”کنز الایمان“ پر ”خزانۃ العرفان“ کے نام سے حاشیہ لکھا، الحمد للہ! یہ ترجمہ اور رحائیہ پاکستان، بلکہ دلیش اور ہندوستان میں نہایت ہی مقبول ہے، ان ممالک کے مسلمان جب حج، عمرہ یا ملازمت کے لئے سعودی عرب جاتے تو یہ ترجمہ، قرآن پاک بھی اپنے ساتھ لے جاتے، تاکہ حریم شریفین میں قیام کے دوران اس کا مطالعہ کرتے رہیں اور اس سے استفادہ کریں۔

بعض اردو زبان جانے والوں نے ریاض، سعودی عرب کے ادارہ الجوہث الاسلامیۃ العلمیۃ والا فتاوی و الدعوۃ والا رشاد کو امام احمد رضا خان کے ترجمہ، قرآن کریم اور صدر الافتال فاضل مولا ناسید محمد نعیم الدین مراد آبادی کے حواشی کے کچھ نمونے بگاڑ کر اور عربی میں ترجمہ کر کے پیش کئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سعودی یہ کے ادارہ مذکورہ نے اس ترجمہ اور اس کے حواشی کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا اور تمام شخصوں کو ملک سے باہر نکلنے کا حکم دے دیا اور یہ بھی آرڈر جاری کیا کہ اس ترجمہ والا قرآن کریم سعودی عرب میں لانا منوع ہے۔

اس فیصلے نے پاکستان، بلکہ دلیش اور ہندوستان کے مسلمانوں کو اضطراب

پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم

جہاز کی مقدار سرزی میں سے ہر مسلمان کا جو قلبی تعلق ہے، وہ محتاج بیان نہیں، مسلمان دنیا کے کسی گوشہ میں ہو وہ اپنے خالق واللک کے حضور جی بن نیاز جھکانے کے لئے مکہ مکرمہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں حضور سرور عالم ﷺ کا گنبد خضراء ہر مومن کی عقیدت اور عشق کا مرکز ہے۔ حکومت سعودیہ حریم شریفین کی توسعی اور تعمیر کے لئے اور جاج اور زائرین کو ہر قسم کی سہولتیں فراہم کرنے کے لئے جس طرح پانی کی طرح روپیہ بہاری ہے۔ اس کو ہر مسلمان قادر کی نگاہ سے دیکھتا ہے مرحوم و مغفور ملک الفیصل کی محوب شخصیت نے مسلمانوں کی بکھری ہوئی صفوں کو منظم و متحمذ کرنے کے لئے جو مخلصانہ کاؤنٹیں کی ہیں اس کا انکار ممکن نہیں۔ ان کے بعد شاہ خالد مرحوم بھی مسلمانوں کی شیرازہ بندی کے لئے جد و جہد میں مصروف رہے اور موجودہ فرمازروں جلالۃ الملک فہد بن عبدالعزیز اطہال اللہ بقاءہ اپنے عظیم بھائی کے پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لئے شب و روز سرگرم عمل ہیں۔

سعودی عرب کے ان بیدار مغز حکمرانوں کی ان مسامی کے باعث جو وہ ملت کی اجتماعی فلاح و بہبود کیلئے انجام دے رہے ہیں۔ امت کا ہر فرد اپنے دل میں ان کیلئے عزت، قدر اور محبت کے جذبات محسوس کرتا ہے، لیکن بعض ایسے افراد بھی ہیں جو سعودی حکومت اور امت مسلمہ کے سوادِ اعظم کے درمیان بیگانگی اور لا تعلقی بلکہ عناد اور نفرت پیدا کرنے میں کوشش ہیں اور اہل سنت و جماعت کے عقائد کو ان کے سامنے اس طرح بگاڑ کر پیش کرتے ہیں جس سے بدگمانیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔

میں بتلا کر دیا، اللہ تعالیٰ جزاۓ خیر عطا فرمائے حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی مدظلہ، سجادہ نشین سیال شریف، ضلع سرگودھا کو انہوں نے جنوری ۱۹۸۲ء میں ایک کھلا مکتب عربی زبان میں سعودی عرب کے حکمرانوں اور علماء کے نام ارسال کیا۔ جس میں اس گروہ کی غلط کاری اور خیانت کی نشاندہی کی گئی، جس نے ”ادارۃ البحوث الاسلامیۃ“ سعودی عرب کے سامنے امام احمد رضا خان بریلوی کے ترجمہ عقرآن کریم اور مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کے حاشیہ پر دس بے بنیاد اعتراضات پیش کئے تھے۔ خواجہ حمید الدین سیالوی مدظلہ نے ان اعتراضات کے بہترین جوابات دے اور حق کا بہترین دفاع کیا، ان کا مقصد اصلاح احوال تھا، اور اسی مقصد کے تحت رضا اکیدمی، لاہور نے اس کے شائع کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اس کا فائدہ عام سے عام تر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لکھنے والے کو بہترین جزاۓ عطا فرمائے اور اس سے مسلمانوں کو نفع عطا فرمائے ان کی صفوں کو متحمذ فرمائے اور ان کے دلوں میں باہمی الفت عطا فرمائے، موجودہ دور میں ہمیں اس اتحاد کی حد درجہ ضرورت ہے، اے اللہ! ہمیں حق کو حق دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق سے افضل ہستی حضرت محمد ﷺ، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحاباء کرام پر بے انداز رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین!

محمد عبدالحکیم شرف قادری

شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ ضویہ لاہور
ناظم تعلیم و تربیت جماعت اہلسنت پاکستان

۹۔ صفر المظفر ۱۴۲۲ھ

۳۔ مئی ۲۰۰۴ء

اسلام و شنقوتوں کے مخفی اشاروں کے مطابق بروئے کار لار ہے ہیں۔
 اس سلسلہ میں حضرت صاحبزادہ حافظ محمد حمید الدین صاحب سجادہ نشین
 آستانہ عالیہ سیال شریف نے 13۔ اکتوبر 1982ء کو ایک میٹنگ بلائی جس میں
 نامور علماء و مشائخ نے شرکت کی اور ساری صورت حال پر بڑی سمجھیگی سے غور کیا گیا
 ، چنانچہ مجلس الدعوۃ الاسلامیہ کی تشکیل کی گئی جس کے مقاصد میں سرفہرست عقائد حقہ
 اسلامیہ کی تبلیغ و اشاعت کے ساتھ ساتھ ان سازشوں کو ناکام بنانا ہے جو ملت اسلامیہ
 میں اس پر آشوب دور میں انتشار و اختلاف پیدا کرنے کیلئے کی جا رہی ہیں اور یہ بھی
 طے پایا کہ اعلیٰ حضرت کے ترجمہ اور حضرت صدر الافاضل کی تفسیر پر جو اعتراضات
 کئے گئے ہیں ان کا جائزہ لیا جائے اور بڑے ثابت انداز میں حقیقت حال سے سعودی
 حکومت کے سرکردہ اہل علم و فضل اور حکومت کے ذمہ دار فراد کو آگاہ کیا جائے۔

اس فیصلہ کو عملی جامہ پہنانے کے لئے حضرت سجادہ نشین صاحب سیال
 شریف کی طرف سے جلالۃ الملک فہد بن عبدالعزیز، ان کی حکومت کے موثر وزراء
 کرام اور جامعات کے شیوخ خصوصاً ادارۃ البحوث العلمیہ والافتاء والدعوۃ والا رشاد
 اریاض کے رئیس اور اشیخ محمد علی الحرمکان سیکرٹری جزل رابطہ عالم اسلامی کو خطوط لکھے
 گئے اور ان اعتراضات بلکہ الزامات کا تفصیلی جواب ارسال کیا گیا تاکہ ان غلط فہمیوں
 کا استیصال کیا جاسکے۔ جو چند اہل غرض کی ناپاک کوششوں کے باعث سعودی عرب
 کے امراء اور علماء کے دلوں میں اہل سنت و جماعت کے عقائد کے بارے میں پیدا کی
 گئی ہیں۔

عوام کے فائدہ کیلئے حضرت سجادہ نشین صاحب سیال شریف کا اصل عربی

جو لوگ حج و عمرہ ادا کرنے کے لئے پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے
 علاقوں سے جاتے ہیں، انہیں یہ شکایت ہے کہ حرم شریف میں بعض مولوی صاحبان
 بڑی دل آزار قاری کرتے ہیں اور جمہور اہل اسلام کو کافر اور مشرک کہنے میں انہیں
 ذرا بھک نہیں ہوتی۔ اسکے علاوہ اب یہ اردو بولنے والے ضمیر فروش یہاں کے اہل علم
 و فضل کے خلاف حکومت کو غلط روپریتیں پیش کر کے جزا مقدس میں ان کے قیام کو بڑا
 تکلیف دہ بنادیتے ہیں اور کئی علماء کو تو بلا وجہ قید خانوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ ان
 گندم نما اور جو فروش لوگوں کی حضرت یہیں تک پوری نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے
 ایک ایسی سازش کی ہے جس نے اہل سنت کے حلقوں میں بے چینی اور اضطراب کی اہم
 دوڑادی ہے۔

اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ جوانپی
 فصاحت و بلاغت میں بے نظیر ہے اور حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین
 قدس سرہ کے تفسیری حواشی جو ایجاز اور جامعیت کا حسین پیکر ہیں، ان کے خلاف وہاں
 ل غلط پروپیگنڈہ شروع کر دیا اور وہاں کے اہل علم کے سامنے اسے غلط انداز میں پیش
 کرتے رہے۔ یہاں تک کہ اریاض کے ادارۃ البحوث العلمیہ نے قرآن مجید کے ان
 نسخوں کو بھی جلانے کا حکم صادر کر دیا جن میں یہ ترجمہ اور تفسیر موجود ہے۔ ان روح
 فرسا اور المذاک واقعات نے پاکستان کے بالغ نظر علماء و مشائخ کو مجبور کر دیا کہ وہ
 کوئی ایسا ثابت پروگرام بنائیں جس سے ان غلط فہمیوں کو دور کیا جاسکے اور مملکت
 سعودیہ کے امراء و علماء کے دلوں میں اہل سنت کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا کی
 گئی ہیں ان کا ازالہ کیا جاسکے۔ اور اس سازش کو بے نقاب کیا جائے جو اہل غرض لوگ

مکتوب اور جوابات معاو دو ترجمہ ضایعے حرم (شارہ جنوری ۱۹۸۳ء) میں شائع کئے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقاصد میں کامیاب فرمائے اور ملت اسلامیہ کی شیرازہ بندی کی توفیق ارزانی فرمائے۔

مختار: سیدکری جزء مجلس الدعوه الاسلاميه، سیال شریف، سرگودھا
(جنوری ۱۹۸۳ء)

مکتوب (اردو ترجمہ)

سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جس کی توفیق سے اعمال صالح پایہ تھیں مکمل کو پہنچتے ہیں اور جس کے فضل و کرم سے نیکیوں کو شرف قبولیت بخشنا جاتا ہے اور درود و سلام ہوں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور اس کی مخلوق کے سردار پر جن کا نام نامی "محمد" ﷺ ہے جو روف و رحیم ہیں آپ کی جملہ آل اور آپ کے تمام صحابہ پر۔
اما بعد: امت مسلمہ کو اپنی طویل تاریخ میں روز اول سے آج تک کئی نازک مرحلوں سے گزرنا پڑا اور ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑا جواز خد خوفناک اور پریشان کن تھے۔ ابتداء میں عرب کے مشرک قبائل نے یہ چاہا کہ اپنے کثیر التعداد جھوپوں اور بہادر شہسواروں کی قوت سے اسلام کے چراغ کو بجھادیں، لیکن انہیں اپنے مقاصد میں رسوا کن ناکامی سے دوچار ہونا پڑا۔ پھر جزیرہ عرب کے مغرب سے قیصر اور مشرق سے کسری نے اپنے عساکر قاہرہ، جومہلک ہتھیاروں سے مسلح تھے اور اپنے بے پناہ وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اس جواں ہمت امت کی بخش کرنی کیلئے داؤ پر لگا دیا لیکن اسلام کے جانباز مجاہدین نے اپنی تعداد کی کمی اور وسائل کی کمزوری کے باوجود انہیں شرمناک ہزیست سے دوچار کر دیا، چند صدیاں گزرنے کے بعد ساری یورپ

اسلام اور فرزندانِ اسلام کے خلاف بھڑک اٹھا۔ یورپ کے ممالک کے بادشاہ، وہاں کی حکومتوں کے روسا اور اس برا عظیم کے نوجوان نصرانیت کے جھنڈے تسلیم ہو گئے اور صلیبی جنگوں کی آگ کو بھڑکا دیا جو کئی قرون تک شعلہ زن رہی، حالات کی تند و تیزی لہروں کے سامنے امت مسلمہ یوں ثابت قدم رہی جس طرح فولا دی چنان خوفناک طوفانوں کے درمیان سر بلند رہتی ہے۔ ان کی اس واضح کامیابی کا راز ان کی قوت ایمانی اور ان کا باہمی اتحاد تھا اور وہ ایک سیسے پلاٹی دیوار کی طرح تھے جہاں اختلاف اور انتشار اپنے قدم نہیں جماعت کئے تھے۔

لیکن آج حالات بڑے المناک اور شرمناک حد تک تبدیل ہو چکے ہیں تمام مسلم ممالک ایسے خطرات میں گھرے ہوئے ہیں جن سے ان کی سلامتی اور بقا کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ہر اسلامی ملک کی سرحدیں غیر محفوظ ہیں۔ اسرائیل کے جنگی طیارے اپنے ہوائی اڈوں سے اڑتے ہیں اور عالم عرب کے جس خطہ میں چاہتے ہیں بھوکی بارش بر سادیتے ہیں اور اس میں انہیں قطعاً کوئی خوف نہیں ہوتا کہ ان کی مزاحمت کی جائے گی یا ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ یہ ساری کارروائی اطمینان سے کر لینے کے بعد بخیر و عافیت اپنے ہوائی اڈوں پر واپس آ جاتے ہیں۔

کیا تلخ اور خوفناک حقیقت کے چہرہ سے پردہ اٹھانے کے لئے وہ حادثات کافی نہیں؟ جو گزشتہ چند ماہ میں لبنان اور اس کے دارالسلطنت بیروت میں وقوع پذیر ہوئے خصوصاً ہزاروں معصوم بچوں، عورتوں، بُرزوں اور نوجوانوں کا قتل عام جو تبر کے تیرے چفتہ میں ان کیپوں میں ہوا جہاں فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے۔ اس وحشیانہ قتل اور معصوموں کی خونزیزی کی کوئی مثال آپ پیش کر سکتے ہیں؟ (یاد رہے کہ

ترجمہ حواشی اردو زبان میں ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ادارہ البحوث العلمیہ کے اکثر ارکان اردو زبان نہیں جانتے۔ ایک خاص گروہ نے اللہ تعالیٰ ان کی مسائی کو بھی قبول نہ کرے، اس ترجمہ اور ان حواشی کو جھوٹے اور غلط رنگ میں رنگ کر ادارہ البحوث العلمیہ کے اراکین کے سامنے پیش کیا ہے اور اپنی چوب زبانی اور عیاری کے باعث ان سے یہ فتویٰ صادر کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔

ہم کہتے ہیں اور جو ہم کہتے ہیں اس کی سچائی پر اللہ تعالیٰ کو گواہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے شرک، کفر اور آیات کے معانی میں تحریف کا بہتان ایسے دور بانی عالموں پر لگایا ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں کا ایک ایک لمحہ، اپنا علم، اپنی داش اور اپنی قابلیت اللہ کی بات کو بلند کرنے کے لئے اور ہندوستان میں بننے والے بت پرستوں کو دعوت تو حید پہنچانے کیلئے صرف کی اور وہ بہت سے بت پرستوں کو شرک کے گھپ اندھروں سے نکال کر اسلام کے نور کی طرف لانے میں کامیاب ہو گئے اس مخصوص گروہ نے اپنے دل سے جھوٹی تہمتیں گھڑیں اور ظلم و کذب بیانی سے ان پاک نفوس پر الزام لگایا۔

ہم اعضااء ادارہ البحوث کے معزز اراکین سے پہلے اجازت طلب کرتے ہیں کہ ہم ان کی خدمت میں حقیقت حال بیان کریں اور پھر ان سے درخواست کریں گے کہ وہ وقت نظر سے اس کو دیکھیں اور ان دو علماء کے عقائد کا غور سے مطالعہ کریں۔ اس طرح ان پر حقیقت نفس الامر یہ تک رسائی آسان ہو جائے گی۔ اور ان پر یہ منکشf ہو جائے گا کہ اس گروہ نے جن کی باتوں پر ادارہ البحوث کے معزز اراکین نے اعتماد کیا ہے۔ خیانت کی ہے اور دھوکہ دیا ہے اور اسلام کے قلعہ کی فضیل میں

(یہ مقالہ جنوری ۱۹۸۳ء میں لکھا گیا تھا)

بھی آپ نے سوچا کہ ان متواتر مصائب کی وجہ کیا ہے؟ ان وحشیانہ جملوں کا سلسلہ کیوں زور شور سے جاری ہے۔ رات اور دن کیوں مسلمانوں کو بھیڑ بکری کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے؟ ان مصائب و آلام کا سبب صرف ہماری بےاتفاقی اور باہمی انتشار ہے اور اس مہلک بیماری کا علاج بھی اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ہم اسلام کے پرچم کے نیچے جمع ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اسلامی ممالک کے بیدار مغرب سلاطین اور ان کی حکومتوں کے داشمن دحکام اور ان کے سراپا اخلاص قائدین نے تو یہ عزم کر لیا ہے کہ وہ ان تمام محترمات کو ختم کر دیں گے جو اتحادامت کے لیے تباہ کن ہیں۔ یہ لوگ دل کی گہرائیوں سے اس بات کے متنبی ہیں کہ وہ عہد سعید ایک مرتبہ پھر لوٹ آئے جب تمام مسلمان ایک امت تھے، لیکن مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو ان المناک اور تکلیف دہ حالات میں بھی مسلمانوں کے دلوں میں انتشار اور عداوت کی ختم ریزی میں کوشش ہے صد حیف! وہ ادارہ البحوث العلمیہ والافتاء والدعوه والارشاد الرياض سے ایک فتویٰ صادر کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ ان قرآنی نسخوں کو بھی جلا دیا جائے جن میں عالم رباني شیخ محمد احمد رضا خان کا ترجمہ ہے اور جس کے حاشیہ پر صدر الافق سید محمد نعیم الدین قدس سر ہما کی تفسیر ہے۔

اس فتویٰ نے پاکستان میں بننے والے اہل سنت و جماعت کے حلقوں میں جو امت کا سواد اعظم ہے بڑی سخت بے چینی اور بچال پیدا کر دی ہے، ان کے دل کا بانپ اٹھے ہیں اور ان کی روحیں پر غم و اندوہ چھا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ

شگافوں کو وسیع کر کے دشمنان دین کی خدمت کی ہے۔ اور یہ خدمت ان مشکل دنوں میں جب کہ ساری امت اپنی بقا کی سلامتی کیلئے سرگرم عمل ہے اور اسے باہمی اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ یہ مٹھی بھرا ہل غرض لوگ اس امر میں اپنی کوششیں صرف کر رہے ہیں کہ ان شعوب کے درمیان جو اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے احکام کے سامنے سرتسلیم جھکائے ہوئے ہیں ان کے درمیان اور مملکت عربیہ سعودیہ کے درمیان اختلاف اور انشقاق کی خلچ کو وسیع کر دیں۔

اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حقیقت حال سے پرداختانے کی ابتدا کرتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے تاج کمپنی لمیڈل اہر کے مطبوعہ مصحف کے ص ۳ کی ایک عبارت پر اعتراض کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ عبارت شرک سے لبریز اور خرافات و تحریفات سے ملوث ہے۔ ہم پہلے وہ آیت کریمہ لکھتے ہیں۔ پھر اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے۔ پھر اس اردو ترجمہ کا عربی میں ترجمہ کریں گے۔ پھر آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ اس کے معانی میں غور و خوض کریں پھر ہمیں بتائیں کہ اس ترجمہ میں شرک کہاں ہے اور وہ خرافات کہاں ہیں؟

آیت کریمہ یہ ہے: ایا ک نعبد و ایا ک نستعين (۱: ۳)

اردو میں اس کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے: ”ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں“

یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سو اسکی کی عبادت نہیں کرتے ہم صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور تیرے سو اسکی سے مدد نہیں طلب کرتے۔

معزز ارائیں! کیا اس ترجمہ میں شرک کا شایبہ اور کفر کی بوتک کا بھی آپ سراغ لگا سکتے ہیں؟

کیا یہ تعبیر اللہ تعالیٰ کے نشا کے عین مطابق نہیں؟ یہ الزام لگانا کہ یہ ترجمہ شرک سے آلوہ ہے۔ بہت بڑی تہمت ہے۔

اب ہم آپ کی توجہ اس حاشیہ کی طرف مبذول کرتے ہیں جو اس ترجمہ کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اسے بھی آپ شرک و تحریف کی تہمت سے پاک و صاف پائیں گے۔ مخشی علام نے بائیں الفاظ اس کی تشریح کی ہے:

”اس میں روشنک بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کسی کیلئے نہیں ہو سکتی۔

ایا ک نستعين میں یہ تعلیم فرمائی کہ استعانت خواہ بالواسطہ ہو یا بے واسطہ ہر طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ حقیقی مستعان وہی ہے باقی آلات و خدام احباب وغیرہ سب عون الہی کے مظہر ہیں، بندے کو چاہیے کہ اس پر نظر رکھے اور ہر چیز میں دست قدرت کو کارکن دیکھے۔“

(اس کے بعد اس اردو عبارت کا عربی میں ترجمہ کیا گیا)

یہ عبارت اس بات کی سچی گواہی دے رہی ہے کہ مخشی نہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک سمجھتا ہے اور نہ اپنے رب سے استعانت میں کسی کو شریک بناتا ہے۔ اس کا یہ پختہ ایمان ہے کہ حقیقی مد فرمانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہ اعانت جو بظاہر کسی اور سے حاصل ہوتی ہے اس میں بھی موثر حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جو مخشی یہ صاف اور وشن عقیدہ رکھتا ہے اس پر شرک کی تہمت ظلم عظیم اور گناہ کبیرہ ہے۔ جن لوگوں نے اس عقیدہ حقہ کو اپنی طرف سے کوئی اور نگ دے کر پیش کیا ہے انہوں نے بیک وقت دو ہجرموں کا رنگاب کیا ہے۔ پہلا یہ کہ انہوں نے ایک مونک اور محمد پر شرک اور آیات قرآنی کے معانی میں تحریف کی جھوٹی تہمت لگائی ہے اور دوسرا

انہوں نے ادارۃ البحوث کے معزز ارکان کو دھوکہ دیا ہے اور جو اعتماد معزز ارکان نے ان پر کیا ہے اس میں خیانت کے مرتكب ہوئے ہیں۔

غیر اللہ کی طرف اعانت کی نسبت جب کہ قائل کا یہ عقیدہ ہو کہ موثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے شرک نہیں کیوں کہ یہ نسبت قرآن کریم میں مذکور ہے:
 جب قوم نے ذوالقرینین کو مالی تعاون کی پیش کش کی تاکہ وہ ان کے لئے ایک بند بنا دے تو ذوالقرینین نے جواب دیا: مامکنی فیه ربی خیر فاعینونی بقوة. (۹۵:۸)

اور وہ بولا وہ دولت جس میں میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے پس تم میری مدد کرو جسمانی مشقت سے۔ میں بنا دوں گا تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ۔

نیز اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے:
 استعينوا بالصبر والصلوة کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔
 اس کے علاوہ اور متعدد آیات کریمہ ہیں۔

دوسری اعتراض انہوں نے اس اقتباس پر کیا ہے جو ص ۵ پر درج ہے۔
 انہوں نے کہا کہ مترجم اور مجھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء و رسول بشر نہیں ہیں۔ یہ ایک صاف جھوٹی تہمت ہے دونوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء و رسول بشر ہیں اور ابو البشر آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں ایسے نابغہ روزگار عالم انبیاء و رسول کی بشریت کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ جب کہ قرآن کریم گواہی دیتا ہے اور صراحت بیان کرتا ہے کہ انبیاء بشر ہیں۔ درحقیقت یہ دونوں عالم انبیاء کی بشریت پر پختہ عقیدہ رکھتے ہیں اور جو شخص انبیاء

ورسل کی بشریت کا انکار کرتا ہے وہ ان کے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جس طرح امام احمد رضا خان نے اپنے فتاویٰ رضویہ کی جلد ششم میں بڑی صراحة سے بیان فرمایا ہے، لیکن یہ دونوں عالم اس بات کو مستحسن سمجھتے ہیں کہ جب انبیاء کو بشر کہا جائے تو احترام و تکریم کے کسی لفظ کا اضافہ کیا جائے جیسے خیر البشر سید البشرين فضل البشر صرف کلمہ بشر کا استعمال ان کے نزدیک ناپسندیدہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام جب اپنی قوموں کو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے اور شرک کی تمام ممکنہ صورتوں سے دست کش ہونے کی دعوت دیتے، کفار ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے اور درشتی اور گستاخی کے ساتھ انہیں باس الفاظ جواب دیتے:

ان انتم الا بشر مثلنا تریدون ان تصدوانا عمماً بعد آبائونا فاقروا

بسلطان مبین (ابراهیم: ۱۰)

ترجمہ: ”انہوں نے جواب دیا نہیں ہو تو تم مگر بشر ہماری طرح تم یہ چاہتے ہو روک دو، ہمیں ان بتوں سے جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ پس لے آؤ ہمارے پاس کوئی روشن دلیل،“

سورہ مومنوں میں حضرت نوح اور ان کی قوم کا مکالمہ اس طرح منقول ہے:
 ولقد أرسلنا نوحًا إلی قومه فقال يا قوم اعبدوا الله مالكم من
 الله غيره افلاتتقون وقال الملاّ الذين كفروا من قومه ما هدا
 الا البشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم (المومنوں ۲۳: ۲۴)

ترجمہ: ”اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کو قوم کی طرف تو آپ نی فرمایا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارا کوئی خدا اس کے بغیر، کیا تم (بت

پرستی کے انعام سے) نہیں ڈرتے تو کہنے لگے وہ سردار جہنوں نے کفر اختیار کیا تھا ان کی قوم سے نہیں ہے یہ مگر بشرطہ مارے جیسا۔ یہ چاہتا ہے کہ اپنی بزرگی جتلائے تم پر،“ اس سورۃ المونون کی آیات ۳۲۳ اور ۳۲۴ ملاحظہ فرمائیں جن میں قوم عادیا شہود کا جواب مذکور ہے:

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِلَّا دِينُكُمْ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِلِقَاءَ الْآخِرَةِ
وَاتَّرَفُنَا هُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بِشَرْمَتُكُمْ يَا كَلْوَنْ مِنْهُ
وَيَشْرُبُ مَمَاتِشَرِبُونَ وَلَنْ اطْعُمَنْ بِشَرِّا مِثْلُكُمْ إِنْكُمْ أَذَّلَّ خَاسِرُونَ .

(۳۲۴: ۳۲۳)

ترجمہ: تو بولے اس نبی کی قوم کے سردار جہنوں نے کفر کیا تھا اور جہنوں نے جھٹلا یا تھا قیامت کی حاضری کو اور ہم نے خوشحال بنادیا تھا انہیں دینوی زندگی میں (اے لوگو) نہیں ہے یہ مگر ایک بشرطہ ماری مانند یہ کھاتا ہے وہی خوراک جو تم کھاتے ہو اور پیتا ہے اس سے جو تم پیتے ہو اور اگر تم پیروی کرنے لگے اپنے جیسے بشرطی کم تب نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے)

قرآن کریم میں ان کے علاوہ بہت سی آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ان کجر و اور گمراہ امتوں کے جواب ذکر کیے ہیں، جوانہوں نے اپنے رسولوں کو دیئے تھے۔ ان جوابات میں اللہ کے نبیوں کی توجیہ اور اسکے رسولوں کی تنقیص کسی اہل نظر پر مخفی نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسول کے احترام و تکریم کا حکم دیا ہے۔ خصوصاً سید الانبیاء امام المرسلین ﷺ کے بارے میں ارشاد فرمایا:

وَبِعَزِّ رُوْهُ وَتُوَقْرُوْهُ امام راغب اصفہانی مفردات قرآن میں

”تُعَزِّرُوْهُ“ کے کلمہ کی تشریح کرتے ہوئے قطر از ہیں: **الْتَّعْزِيزُ : الْتُّضْرَهُ مَعَ التَّعْظِيمِ** یعنی تعظیم و تکریم کے ساتھ کسی کی امداد کرنا۔ صاحب لسان العرب اس کلمہ کی توضیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں **عَزَّرَةٌ ، فَخَمْهَةٌ وَعَظَمَةٌ**: کسی کی رفتہ شان اور احترام و تعظیم کی جائے تو عرب کہتے ہیں **عَزَّرَةٌ** یہی اغاثت کا امام ہے **تُوَقْرُوْهُ** کی تشریح کرتا ہے۔

وَقَرَ الرَّجُلَ بَعْلَهُ وَالتَّوْقِيرُ : التَّعْظِيمُ وَالنَّرْدِيْنُ - کسی کی تو قیر و تجمل کرنا، کسی کی عزت و تکریم کرنا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کی تعظیم و تکریم کا مکر حکم دیا ہے اور یہ بھی ارشاد ہے کہ جو شخص بے ادبی کی نیت سے بارگاہ رسالت میں آواز بلند کرے گا تو بطور سزا اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، خواہ ان کی تعداد کتنی ہو اور ان کی شان بڑی اونچی ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ بارگاہ رسالت میں ”رَأَيْنَا“ کا لفظ استعمال کریں۔ اگرچہ لغت عرب میں اس کلمہ کے معنی میں تنقیص کا کوئی وابہ نہیں، لیکن یہی لفظ عبرانی زبان میں ایسے معنی میں استعمال ہوتا ہے جو حضور کی شان رفع کے شایان نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت میں ایسے لفظ کو استعمال کرنے سے روک دیا جس کا کسی زبان میں بھی ایسا مفہوم ہو جس میں تنقیص کا پہلو نکلتا ہو۔ علامہ ابو عبد اللہ القرطبی نے اپنی شہرہ آفاق تفسیر الجامع لا حکام القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے۔

فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى تَجَنُّبِ الْأَلْفَاظِ الْمُحْتمَلَةِ الَّتِي فِيهَا التَّعْرِيْضُ
لِلْتَّنْقِيْصِ وَالْغَضِّ یعنی اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ بارگاہ رسالت میں

ایسے الفاظ کے استعمال سے اجتناب کیا جائے جن میں اشارہ بھی تنقیص اور بے ادبی کا احتمال ہو۔

تیرسا اعتراض اس حاشیہ پر ہے جو ص ۱۶ پر مکتوب ہے۔

مجززار کین ادراۃ الحجوث! ہم پہلے آپ کی خدمت میں اردو عبارت پیش کرتے ہیں تاکہ آپ اسے پڑھیں اور دقت نظر سے اس کا مطالعہ کریں پھر ہمیں اس جملہ یا سطر کی نشاندہی کریں کہ جس میں شرک اور انحراف کا پہلو پایا جاتا ہے۔

مسئلہ نی بھی معلوم ہوا کہ مقامات مبتکر کے جو رحمت الہی کے موردو ہوں وہاں تو بہ کرنا اور طاعت بجالان اثرات نیک اور سرعت قبول کا سبب ہوتا ہے۔ (فتح العزیز) اس لئے صالحین کا دستور رہا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کے موالد اور مزارات پر حاضر ہو کر استغفار اور طاعت بجالاتے ہیں، عرس و زیارات میں بھی یہ فائدہ منتصور ہے۔ اس کے بعد اس کا عربی ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات کو بعض پر فضیلت دی ہے اس میں عبادت اور طاعت کرنے کا ثواب زیادہ ملتا ہے اور وہاں جو دعا نگی جاتی ہے وہ شرف قبولیت سے جلد نوازی جاتی ہے، جیسے "مسجد حرام" اس کو وہ فضیلت اور بزرگی حاصل ہے کہ سارے جہاں کی مساجد میں سے کوئی مسجد اس کی ہمسری کا دعوی نہیں کر سکتی اور مسجد حرام میں بھی ایسے مقامات ہیں جہاں دعا کی قبولیت کی امید دوسرے مقامات سے زیادہ ہوتی ہے، جیسے ملتزم، میزاب رحمت، رکن یمانی اور جبرا اسود کا درمیانی حصہ، اور مقام ابراہیم۔ اسی طرح مسجد نبوی کو فضیلت و بزرگی حاصل ہے، اسی طرح مسجد قبا کی ایک امتیازی شان ہے جو اسے دوسری مساجد سے ممتاز کرتی ہے، مجھی

نے اپنی اس تعلیق میں اسی مسلمہ امر کی طرف اشارہ کیا ہے انہوں نے یہ بات اپنے دل سے نہیں گھٹری، بلکہ شیخ جلیل محدث کبیر مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ارشاد سے استفادہ کیا ہے اور شاہ عبدالعزیز صاحبزادے اور خلف الرشید ہیں۔ حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے، جن کی صافی جمیلہ کے طفیل ہندوستان میں تشریعت اسلام میں کو ضعف اور افرادگی کے بعد نیاشاہ اور نئی تروتازگی نصیب ہوئی۔ احادیث نبویہ بھی مجھی کے اس قول کی صحیح اور ذاتیہ کرتی ہیں۔

۱..... رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبْنِي عُمَرَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نِبِيَّ مَسْجِدَ قُبَّةَ رَأَكَبَا وَمَا شِيَا وَيَصْلَمَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ .
ترجمہ: امام مسلم نے حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبایل تشریف لاتے تھے، کبھی سوراہ کو اور کبھی پیدل اور اس میں دور کلت نماز ادا فرماتے۔

۲..... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْتِي قُبَّةَ كُلَّ سَبْتٍ وَكَانَ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَا تِيْمَةَ كُلَّ سَبْتٍ .

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن دینار نے مردی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر ہر ہفتہ کے دن قبایل تشریف لے آتے اور فرمایا کرتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ حضور ہر ہفتہ کو یہاں تشریف لے آتے۔

صحیح مسلم کے مشہور شارح امام نووی ان احادیث کی تشریح کرتے ہوئے قطراز ہیں:

فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ بَيَانٌ فَضْلِهِ وَفَضْلُ مَسْجِدِهِ وَالصَّلَاةِ فِيهِ
وَفَضْلِهِ زِيَادَتِهِ وَإِنَّهُ يَجُوزُ زِيَارَتُهُ رَأِكًا وَمَاشِيًّا هَكَذَا حَمِيعُ الْمُواضِعِ
الْفَاضِلَةِ يَجُوزُ زِيَارَتُهَا رَأِكًا وَمَاشِيًّا

ترجمہ: حضور ﷺ نے اپنی شفقت بھری تکاہیں حضرت مصعب اور ان کے
رفیق شہیدوں پر ڈالیں جو واحد کے میدان میں پڑے ہوئے تھے اور بلند آواز سے
فرمایا۔ اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے کہ تم قیامت کے دن اللہ کے نزدیک شہداء ہو پھر
اپنے صحابیوں کی طرف توجہ مبذول فرمائی، جو حضور کے اروگرد کھڑے تھے اور فرمایا
اے لوگو! ان شہیدوں کی زیارت کیا کرو، ان کے پاس آیا کرو انہیں سلام دیا کرو پس
فتم ہے اس ذات کی بخش کے دست قدرت میں میری جان ہے قیامت تک جو
مسلمان بھی ان کو سلام عرض کرے گا وہ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔

جب شہداء کے زائرین کا یہ حال ہے تو ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا
خیال ہے؟ جو قبور انبیاء خصوصاً سید الانبیاء علیہ و علیہم افضل الصلوٰۃ والسلام کی
مرقد منور و مبارک کی زیارت کیلئے آتے ہیں، کیا کسی کیلئے یا جائز ہے کہ صلحاء کی قبور
کے زائرین پر شرک اور بدعت کی تہمت لگائے؟ جب کہ اللہ تعالیٰ کا رسول اس کی
اجازت دیتا ہے اور شہداء احمد کی قبروں کی زیارت کا شوق دلاتا ہے اور ان کی زیارت
کرنے والوں کو ایسی بشارت دیتا ہے جس سے دل شاداں و فرحاں ہو جاتا ہے۔
اہل سنت و جماعت میں سے جو مسلمان انبیاء و صلحاء کی قبروں کی زیارت
کرتے ہیں کسی کے دل میں ہرگز یہ خیال نہیں گزرتا کہ اصحاب قبور خدا ہیں
(الْعِيَازُ بِاللَّهِ) اور عبادات کے مستحق ہیں یا وہ از خود کسی قسم کے تصرف کی قدرت رکھتے

يَشَهَدُ أَنَّكُمْ شُهَدَاءُ عِنْدِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ الْأَخْيَاءِ
حَوْلَهُ وَقَالَ إِيَّهَا النَّاسُ زُورُوهُمْ وَأَتُوْهُمْ وَسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ فَوَاللَّهِ نَفْسِي
بِيَدِهِ لَا يَسْلِمُ عَلَيْهِمْ مُسْلِمٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا رَدُّا عَلَيْهِ السَّلَامُ.

ترجمہ: یعنی ان احادیث سے قبا کے گاؤں، اس کی مسجد اور اس مسجد میں
نمایا کی فضیلت کا بیان ہوا، نیز اس کی زیارت کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے اور یہ بھی
ثبت ہوتا ہے کہ اس کی زیارت کے لئے سوار ہو کر اور پیدل آنا جائز ہے۔ اسی طرح
 تمام وہ مقامات جنہیں فضیلت اور بزرگی حاصل ہے ان کی زیارت بھی جائز ہے
۔ خواہ سوار ہو کر آئے یا پیدل چل کر۔

محشی علام نے زیارت قبور کا جو مسئلہ یہاں بیان کیا ہے تو یہ امر مسنون ہے
حضرت نبی کریم ﷺ بقعہ کی زیارت کیلئے تشریف لاتے اور اپنی امت کے لئے
مغفرت کی دعا مانگتے اور شہداء احمد کے مقابر کو بھی اپنی زیارت کے شرف سے بہرہ
اندو زفر مانتے۔

ہم یہاں چند سطور اخبار العالم الاسلامی سے نقل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک
ہفتہوار رسالہ ہے، جو بطور عالم اسلامی کے شعبہ صحافت و نشر کی طرف سے شائع کیا
جاتا ہے، اس کے نمبر ۹۰۷ سو موادر یقعدہ ۱۴۰۲ ہجری کے شمارہ میں ایک مقالہ ہے جس
میں حضرت مصعب بن عمير رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ایمان افرز تذکرہ ہے۔
مقالہ نگار پنے ایمان افرزو مقالہ کا اختتام ان عنبرین سطور سے کرتا ہے:

وَهَتَّفَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَدْ وَسَعَ نَظَرُهُ الْحَانِيَةَ
أَرْضَ الْمَغْرِبَةِ بِكُلِّ مَنْ عَلَيْهَا مِنْ رَفَاقٍ مُضْعِبٍ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ

ہیں۔ اگر کسی نے ان دو بزرگ عالموں کے بارے میں آپ کو یہ اطلاع دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک تھا رہتے ہیں اور کسی کو اس کا مقابل بتاتے ہیں تو اس نے دروغ گولی کی ہے اور بہتان تراشا ہے یہ دونوں عالم تو عمر بھر یہ گواہی دیتے رہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ هَرَسَانِسَ کے ساتھ یہ اعلان کرتے رہے انْمُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اگر بعض لوگ زیارت قبور سے روکتے ہیں تو ان کے نزدیک قبر کی زیارت کرنے والا زیادہ سے زیادہ گناہ کبیرہ کا مرتب ہی قرار دیا جائے گا۔ کسی کیلئے اس پر شرک اور کفر کا فتویٰ الگانا کیوں کر جائز ہے؟ یہ توحد سے سراسر تجاوز ہے اور اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

۳۔ چوتھا اعتراض اس عبارت پر ہے جو ص ۲۳ پر درج ہے اور اس کا تعلق مندرجہ ذیل آیت سے ہے:

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الظِّنَّ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ (۸۹:۲)

حاشیہ کی عبارت درج ذیل ہے:

شان نزول: سید الانبیا علیہ السلام کی بعثت اور قرآن کریم کے نزول سے قبل یہو داپنی حاجات کیلئے حضور کے نام پاک کے وسیلہ سے دعا کرتے اور کامیاب ہوتے تھے اور اسی طرح دعا کیا کرتے: اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا وَانْصُرْنَا بِالنَّبِيِّ الْأَمِيِّ۔ یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے فتح و نصرت عطا فرم۔ (اس کے بعد اس کا عربی ترجمہ لکھا گیا ہے)

معترضین دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ عبارت شرک اور خرافات سے لبریز ہے کیوں کہ اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اہل کتاب حضور نبی کریم ﷺ کے اسم مبارک سے وسیلہ پکڑ کر کفار پر غلبہ حاصل کیا کرتے اور یوں دعا کرتے: اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا وَانْصُرْنَا بِالنَّبِيِّ الْأَمِيِّ۔

معزز ارکین اورۃ الحشی علام نے یہ روایت اپنی طرف سے نہیں گھٹری، بلکہ اس نے علماء اسلام کی معتبر کتب تفسیر سے اس کو نقل کیا ہے۔

السيد محمود الکوی اپنی تفسیر روح المعانی میں تحریر فرماتے ہیں:

نَزَّلْتَ فِي بَنِي قَرْيَظَةَ وَنَصِيرٍ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الْأَوْسِ وَالْخَرْرَجِ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْكَلَمَ قَبْلَ مَبْعَثِهِ وَقَالُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَلَكَ بِحَقِّ نَبِيِّكَ الَّذِي وَعَدْنَا أَنْ تَبْعَثَهُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَنْ تَنْصُرَنَا الْيَوْمَ عَلَى عَدُوِّنَا وَيُنْصَرُونَ۔

ترجمہ: یہ آیت بنی قریظہ اور بنی نصیر (یہود) کے بارے میں نازل ہوئی وہ اوس و خزر ج رقبا کے جنگ کے وقت رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے پہلے حضور کے وسیلہ سے فتح کی دعا میں ملتے۔ اور یوں دعائیں اے اللہ! ہم تھے سے سوال کرتے ہیں۔ تیرے اس نبی کے حق کا واسطہ دے کر جس کو آخری زمانہ میں مجبوٹ کرنے کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہمیں آج ہمارے دشمنوں پر فتح عطا فرم۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا اور انہیں فتح نصیب ہوتی۔

اسی طرح علامہ ابو عبد اللہ القرطبی اس آیت کے ضمن میں اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں لکھتے ہیں:

قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ كَانَتْ يَهُودٌ خَيْرٌ تُقَاتِلُ غَطْفَانَ، لَمَّا أَلْقَوْا
هُزِمُوا يَهُودٌ فَعَادُتْ يَهُودٌ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَقَالُوا إِنَّا نَسْلُكَ بِحَقِّ النَّبِيِّ
الْأَمْيَّ الَّذِي وَعَدْنَا أَنْ تُخْرِجَهُ لَنَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ إِلَّا تَنْصُرْنَا عَلَيْهِمْ قَالَ
فَكَانُوا إِذَا التَّقَوْا دَعَوْا بِهَذَا الدُّعَاءِ فَهُزِمُوا غَطْفَانَ.

ترجمہ: حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ خبر کے یہودی غطفان سے جنگ آزمائتھے جب مقابلہ ہوا تو یہود کو شکست ہوئی پھر یہودیوں نے اس طرح دعا مانگی: اے اللہ! ہم اس نبی امی کے حق کا واسطہ دے کر جس کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا کہ تو اسے آخری زمانہ میں مبعوث فرمائے گا۔ سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں ان دشمنوں پر فتح عطا فرمائید دعا مانگنے کے بعد جب انہوں نے غطفان سے جنگ کی تو غطفان شکست کھا کر بھاگ گئے۔

مولانا محمود حسن (دیوبندی) نے بھی بعضی یہی روایت اپنے حاشیہ قرآن میں نقل کی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں:

”قرآن کے اترنے سے قبل جب یہودی کافروں سے مغلوب ہوتے تو خدا سے دعا مانگتے گے ہم کو نبی آخر الزمان اور جو کتاب ان پر نازل ہوگی ان کے طفیل کافروں پر غلبہ عطا فرماء۔“ (پھر اس کا عربی میں ترجمہ کیا گیا)

اگر ایسی روایت کا نقل کرنا شرک ہے، تو یہ علماء جنہوں نے اس روایت کو اپنی تفاسیر میں تحریر کیا ہے وہ سب اس بات کے مستحق ہیں کہ ان پر کفر و شرک کا فتویٰ لگایا جائے اور ان کی کتابوں کو نذر آتش کرنے کے احکام صادر کئے جائیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جرم ایک ہو، اور اس کی سزا میں علیحدہ علیحدہ ہوں۔ صفحہ 460 کی جس

ubarat par a'zta'as kia گیا ہے اس کا مقصود بھی یہی ہے۔

۵۔ پانچواں اعتراف اس حاشیہ پر کیا گیا ہے جس کا تعلق اس آیت کریمہ سے ہے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقُولُمْ إِذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْنَمْ إِذْ جَعَلَ
فِيْكُمْ أَنْبِيَاءَ (۲۰:۵)

محضی علام نے اس آیت پر یہ حاشیہ رقم کیا ہے:

اس آیت سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں کی تشریف آوری نعمت ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کے ذکر کرنے کا حکم دیا کہ برکات و ثمرات کا سبب ہے، اس سے مخالف میلا دمبارک کے نوجہ بركات و ثمرات اور محمود و مستحسن ہونے کی سند ملتی ہے۔ (اس کے بعد اس کا عربی ترجمہ ذکر کیا گیا)

نعمت کے باعث منعم کا شکر واجب ہو جاتا ہے جو شکر ادا نہیں کرتا اس سے وہ نعمت بسا اوقات چھین لی جاتی ہے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ جو نعمت ان کے پورو گارنے ان پر کی ہے اس کو یاد کریں اور وہ نعمت یہ ہے کہ اس نے ان میں انبیاء مبعوث فرمائے اسی طرح وہ اس نعمت جلیلہ کا شکر ادا کر سکیں گے اگر بھی اسرائیل میں انبیاء کی بعثت ایک نعمت جلیلہ ہے اور اس کو یاد کھانا ان پر لازم کیا گیا ہے تو سید الانبیاء والمرسلین کی بعثت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟

بلاشہہ حضور کی بعثت اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک رفع الشان نعمت ہے اور ہر مومن پر فرض ہے جس کو اس نعمت سے حصہ ملا ہے کہ وہ اس کو فراموش نہ کرے، بلکہ اس کو ہمیشہ یاد کرتا رہے اور اس رب کریم کا شکر ادا کرنے میں

کوشش رہے جس نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور اس کی تشریف آوری سے ہمیں دین حنف اور شریعت بیضاء سے سعادت مند کیا۔ اسی نبی کریم ﷺ کے عینہ حکیمانہ کلمات اور قیمتی پند و نصائح سے شرک اور گمراہی کے بیجوں سے ہمیں نجات ملی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ کوئی ارفع و اعلیٰ نعمت ہے؟ جو شخص اس نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتا پس وہ کس نعمت کو یاد کرے گا اور کس پر اپنے خالق کا شکر ادا کرے گا؟

ادارہ البحوث العلمیہ کے معزز اراکین! محفل میلاد کے العقاد کا یہ مقصد ہے، مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں، اپنے رب کریم کی حمد و شنا کرتے ہیں اور اپنے دل کی گہرائیوں سے اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے حبیب اور نبی ﷺ کو بعوث فرمایا اور اپنا عظیم احسان فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ کے رسول پر صلوٰۃ وسلام پڑھتے ہیں جس طرح ان کے رب نے ان کو حکم دیا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوٰةٌ عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسْلِيمًا۔ اور اس سے اس امر کی توفیق ملتے ہیں کہ رشد وہدایت کا جو پیغام لے کر ان کا رسول اس کی بارگاہ سے آیا ہے اس کی پیروی کی انہیں توفیق نصیب ہو، پھر کوئی عالم تقریر کرتا ہے اور اپنی اس تقریر میں خدا کی نافرمانی کرنے والوں کو اس عذاب سے ڈراتا ہے اور اس کی پیروی کرنے والوں کو اس کی رحمت کی بشارت دیتا ہے، کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ حضور صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت پیدا ہو رہے ہیں اور نہ ہم میں سے کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اس مبارک رات میں ہی محفل میلاد منعقد ہو سکتی ہے اور اس سے آگے یا یچھے اس کا انعقاد جائز نہیں، محفل میلاد کے منعقد کرنے میں ایک اور زبردست فائدہ

بھی ہے کہ اس سے شرک کی جڑیں کٹ جاتی ہیں کیوں کہ جب ہم میلاد شریف کا دن مناتے ہیں اور اپنی تقریروں میں یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولادت فلاں مہینہ میں فلاں روز ہوئی تو گویا ہم سارے اہل علم کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ اپنی کمال شان اور رفتہ منزالت کے باوجود خدا نہیں ہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ ازلی ہے، سرمدی ہے، قدیم ہے، نہ اس نے کسی کو جتا ہے اور نہ اس کو کسی نے جنا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہم پلہ ہے، پس اس شخص کے لئے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے کیوں کرو را ہے کہ وہ ایک مومن پر کفر کی تہمت لگائے کیوں کہ وہ اپنے نبی کریم ﷺ کی ولادت پر ایک اجتماع کرتا ہے تاکہ اس احسان عظیم کا شکر جو اس کے ذمہ واجب ہے اسے ادا کرے، اس آیت کے متعلق جو حاشیہ مخشی علام نے لکھا ہے اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے اور جس نے ان پر شرک و بدعت کی تہمت لگائی ہے اور ان کی طرف ایسی چیز منسوب کی جوان کے دل میں کھلکھلی تک نہیں، پس ایسے شخص سے بارگاہ الہی میں باز پرس کی جائے گی اور یہ باز پرس بہت سخت ہو گی۔

ہم چاہتے ہیں کہ معزز اراکین ادارہ البحوث کی توجہ اس تعلیق کے آخری جملہ کی طرف مبذول کرائیں تاکہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جائے وہ لکھتے ہیں۔ ”اس سے محفل میلاد مبارک کے موجب برکات و ثمرات اور حمود و مستحسن ہونے کی سند ملتی ہے“، (اس کے بعد اس کا عربی ترجمہ کیا گیا)۔

اس آخری جملہ سے ثابت ہو گیا کہ مخشی علام کے نزدیک محفل میلاد کا انعقاد ضروریات دین سے نہیں کہ جو اس کا انعقاد کرنے وہ دائرہ اسلام سے خارج

ہو جائے اور اس طرح یہ بھی واضح ہوا کہ یہ امر فرائض و واجبات شریعت سے نہیں تاکہ جو اس کا تاریک ہو وہ فاسق قرار پائے، زیادہ سے زیادہ یہ بات محمود و مسحین ہے امور مسخنہ اور اعمال محمودہ کو تکفیر کا معیار مقرر کرنا ایک ناپسندیدہ جسارت ہے ایک طرف اتحاد اور اتفاق کی دعوت اور ساتھ ہی اتحاد کی بنیادوں پر کدلیں مارنا ایک عجیب و غریب بات ہے۔

اب ہم اس حاشیہ کے بارے میں بحث کریں گے جس کا تعلق مندرجہ ذیل آیت کریمہ سے ہے:

قُلْ لَا أَقُولُ لِكُمْ عِنْدِيٌ خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ
لِكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُؤْخَذُ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى
وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ (۵۰: ۶)

یہ آیت بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے، گویا یہ عقیدہ توحید کا استوان ہے اور دین فطرت کی بنیاد ہے جو اس سے سروہشادہ راہ راست سے بھٹک گیا اور آتش جہنم میں جاگرا۔

شیخ فاضل کی تعلیق اس آیت کے بارے میں بڑی سودہمند ہے اس کا مطالعہ ان تہتوں کو رد کرنے کے لئے کافی ہے، جو محشی علام پر لگائی گئی ہیں ایک انصاف پسند شخص کو کسی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں رہتی۔

حضرات اعضاء سے درخواست ہے کہ وہ اس کو دقت نظر سے پڑھیں انہیں حق عیا نظر آئے گا اور محشی کا عقیدہ تو حید واضح اور نکھر کر سامنے آجائے گا جس کے قریب شک و شبہ کا گزر ممکن نہیں، کفار مکہ حضور ﷺ سے ایسے سوالات

پوچھتے جو حضور ﷺ کے منصب نبوت اور شان رسالت سے کوئی مناسبت نہ رکھتے پس اللہ تعالیٰ نے ان کے رو میں یہ آیت اتاری، حاشیہ کی عبارت درج ذیل ہے:

آپ فرماد تھے کہ میرا دعویٰ یہ تو نہیں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں جو تم مجھ سے مال و دولت کا سوال کرو اور میں اس کی طرف التفات نہ کروں تو رسالت سے منکر ہو جاؤ۔ نہ میرا دعویٰ ذاتی غیب و ادنیٰ کا ہے کہ اگر میں تمہیں گزشتہ یا آئندہ کی خبریں نہ بتاؤں تو میری نبوت ماننے میں عذر کر سکو، نہ میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ کھانا، پینا، نکاح کرنا قابل اعتراض ہو، تو جن چیزوں کا دعویٰ ہی نہیں کیا ان کے بارے میں سوال بے محل ہے اور اس کی اجابت مجھ پر لازم نہیں میرا دعویٰ نبوت و رسالت کا ہے اور جب اس پر زبردست دلیلیں اور قویٰ برائیں قائم ہو جیں تو غیر متعلق باتیں پیش کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ (اس کے بعد اس کا عربی ترجمہ کیا گیا)

ہمیں امید ہے کہ اس حاشیہ کے پڑھنے اور غور و فکر کرنے کے بعد آپ ہم سے اس بات میں اتفاق کریں گے کہ آیت کا مفہوم اور مقصود یہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا جو مطلب ہے اس سے سروخراوف نہیں کیا گیا۔

ہم اس گروہ سے پوچھتے ہیں جنہوں نے اس بلیغ ترجمہ اور بدیع حاشیہ کے بارے میں شور و غوغای پا کر رکھا ہے اور ایسے تدقیقی اور پاک باز عالم پر شرک اور گمراہی کی تہمت لگائی ہے، انہوں نے کس دلیل سے استناد کیا ہے اور کس جست پر اعتماد کیا ہے؟

محشی نے مشرکین کے نامعقول سوالوں کا بطلان ثابت کرنے کے بعد ایک اور شبہ کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جو اس موضوع کے بارے میں اٹھایا جاتا ہے وہ یہ کہ حضور ﷺ امور غمیبیہ میں سے تعلیم اللہ کے باوجود کسی چیز کو نہیں جانتے یہ نظریہ بھی غلط اور باطل ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں، کیوں کہ یہ نظریہ منصب نبوت اور اس کے فرائض کے منافی ہے اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اس لئے مبعوث کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو ان حقائق پر مطلع کرے جن کو وہ اپنے ظاہری اور باطنی حواس سے سمجھنے سے قاصر ہیں، اسی طرح عقل انسانی بھی ان کے ادراک کی طاقت نہیں رکھتی جس طرح وحی، ملائکہ، آسمانی کتب اور جن آیات میں احکام اللہ کا ذکر ہے ان پر عمل کرنے کی صحیح صورت۔ اور وہ امور جو قیامت کے دن وقوع پذیر ہوں گے یہ ساری چیزیں امور غمیبیہ ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم ﷺ کو تعلیم دی اور حضور نے اللہ کی مخلوق تک ان حقائق غمیبیہ کو پہنچایا، جس طرح یہ بات حق ہے کہ غیب کو اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں جان سکتا، اسی طرح یہ امر بھی شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو بعض امور غمیبیہ پر مطلع کیا اور اس کے رسول نے اہل ایمان کو ان کی استعداد کے مطابق آگاہ کیا، یہی چیز ہے جس کے بارے میں جمہور علماء اسلام نے صراحتہ بیان کیا ہے۔ نصوص قرآنیہ اس کی تائید کرتی ہیں اور احادیث نبویہ بکثرت اس کی تائید کرتی ہیں، اگر کسی شخص نے یہ گمان کیا ہے کہ مترجم اور محشی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ امور غمیبیہ میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے بغیر جانتے ہیں تو اس کا یہ گمان باطل ہے، اس کا کوئی وجود نہیں بلکہ یہ حد درجہ قبح بہتان ہے، اسی طرح اس شخص نے بھی فحش غلطی

کا ارتکاب کیا جس نے یہ گمان کیا کہ مترجم اور محشی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کے علوم کتنا یا کیفیا علوم الہیہ کے برابر ہیں۔ دونوں حضرات نے اپنی تصانیف میں بار بار اس حقیقت کو صراحت سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علوم غیر متناہی ہیں اور حضور علیہ السلام کے علوم متناہی ہیں اور حضور ﷺ کے علوم متناہیہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کے علوم غیر متناہیہ کی طرف اس سے بھی کم ہے جو نسبت چیزیا کی چونچ میں ایک قطرہ آب کو سارے جہان کے بخار ذخیر سے ہے۔

اے معز زار اکیلن! آپ یقین کیجئے کہ جس گروہ نے آپ کے سامنے یہ ترجمہ اور اس کا حاشیہ پیش کیا ہے انہوں نے اپنے علمی فریضہ کی ادائیگی میں امانت کا ثبوت نہیں دیا اور اس دینی فریضہ کو ادا کرنے میں ایک عظیم خیانت کا ارتکاب کیا ہے انہوں نے اس سازش سے یہ چاہا ہے کہ پاکستان کے مومن اور موحد عوام کے درمیان اور اس مملکت عربیہ سعودیہ کے درمیان اختلاف اور انشقاق پیدا کریں جو مسلمانوں کو آپس میں متحاد اور متفق کرنے میں حدود رجہ حریص ہے اور مغفور و مرحوم ملک فیصل شہید کے زمانہ سے لے کر آج کے دن تک لگاتار کوشش اور سرگرم ہے کہ اہل ایمان کے درمیان اتفاق و محبت کے جذبات پیدا ہو جائیں۔

..... ساتواں اعتراض اس حاشیہ پر کیا گیا ہے جو صفحہ نمبر ۲۰۹ پر درج ہے۔

پہلے اردو تعلیق کا مطالعہ فرمائیے:

قاموس میں ہے کہ ایام اللہ سے اللہ کی نعمتیں مراد ہیں حضرت ابن عباس، ابی بن کعب و مجاہد و قادہ نے بھی ایام اللہ کی تفسیر (اللہ کی نعمتیں) فرمائیں۔ مقاتل کا قول ہے کہ ایام اللہ سے وہ بڑے وقائع مراد ہیں جو اللہ کے امر سے واقع ہوئے،

بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایام اللہ سے وہ دن مراد ہیں جن میں اللہ نے اپنے بندوں پر انعام کئے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے لئے من وسلوی اتارتے کا دن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے دریا میں راستہ بنانے کا دن (خازان، مدارک، مفردات) ان ایام اللہ میں سب سے بڑی نعمت کے دن سید عالم ﷺ کی ولادت و معراج کے دن ہیں ان کی یاد قائم کرنا بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے اسی طرح اور بزرگوں پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوئیں یا جن ایام میں واقعات عظیم پیش آئے جیسا کہ دسویں مجرم کو کربلا کا واقعہ ہائل، ان کی یادگاریں قائم کرنا بھی تذکیر بایام اللہ میں داخل ہے بعض لوگ میلاد شریف، معراج شریف اور ذکر شہادت کے ایام کی تخصیص میں کلام کرتے ہیں انہیں اس آیت سے نصیحت پر زیر ہونا چاہیے۔

(اس کے بعد اس کا عربی ترجمہ لکھا گیا)

برگ ترین اور اشرف ترین دن ہیں جن کو یاد رکھنا اور ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا سبب ہے بلکہ اس کے حکم کی بجا آوری ہے۔

شاہید مفترضین نے ان آیت کریمہ کو سمجھنے کے لئے معمولی سی کوشش بھی نہیں کی، تمام تہذیب یافتہ اقوام کے لئے ایسے دن ہیں جن کی تاریخی اور قومی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور وہ ان دونوں کو منایا بھی کرتے ہیں، جیسے غلاموں کی زنجیروں سے آزادی حاصل کرنے کا دن، اپنے دشمنوں پر فتح میں حاصل کرنے کا دن اور یہ محافل ہر قوم کے بھادر اور حریت شعار فرزندوں کی قربانیوں، جانبازیوں کی یادوں کو تازہ کرنے کا سبب بنتی ہیں اور یہ یاد دہانیاں قوم میں ایک نئی روح پھونک دیتی ہیں اور ان کی رگوں میں جوش و نشاط اور زندگی کی لہر دوڑا دیتی ہیں حکومت عرب یہ سعودیہ بھی ہر سال ماہ ذی الحجه کی چار تاریخ کو اپنے قومی دن کے منانے کا اہتمام کرتی ہے، اسی طرح پاکستان میں ہم ۱۴۔ اگست کا دن منانے ہیں اور یہ ہماری جدید تاریخ کا وہ درختان اور تاباں دن ہے جب بر صیریہ ہند کے مسلمانوں نے دو صدیوں تک انگریز کی غلامی کی تباخیوں کو چکھنے کے بعد ان کی غلامی کی زنجیروں کو توڑ ڈالا اور آزادی حاصل کی، اس دن کو منانے میں پاکستان کے موحد اور مومن عوام اور ان کی اسلامی حکومت بے نظیر جوش و خوش سے شریک ہوتی ہے اسی طرح دیگر ممالک اسلامیہ میں بھی ایسے ایام ہیں جن کو انکی تاریخی اور قومی اہمیت کے پیش نظر وہاں کے عوام اور حکومتیں منایا کرتی ہیں اور کبھی کسی کے دل میں یہ خیال نہیں گزرا کہ ایسے دن منا کروہ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں یا شریعت اسلامیہ کے احکام سے مخالف ہو رہے ہیں، ہم نے ان مفترضین سے کبھی نہیں سنًا

ہوتی ہے اس لیے اہل اللہ کے مزارات پر لوگ حصول برکت کے لئے جایا کرتے ہیں اور اس لیے قبروں کی زیارت سنت اور موجب ثواب ہے۔

(اس کے بعد اس کا عربی ترجمہ لکھا گیا)

مشی علام کا یہ قول ان کامن گھرتوں نہیں بلکہ انہوں نے علماء ربانیین سے اس کو نقل کیا ہے علماء اسماعیل حقی قدس سرہ نے اپنی تفسیر روح البیان میں اس آیت کے ضمن میں اسے لکھا ہے:

لَبَّيْنَ عَلَى بَابِ كَهْفِهِمْ مَسْجِدًا يُصَلِّي فِيهِ الْمُسْلِمُونَ
وَيَتَبَرَّ كُونَ بِمَكَانِهِمْ

(ترجمہ) کہ ہم انکی غار کے دروازے پر مسجد بنائیں گے مسلمان اس میں نماز ادا کریں گے اور ان کے قریب سے تمہر ک حاصل کریں گے۔ اسی طرح امام ابوالبرکات النسفی نے اپنی تفسیر مدارک المتریل میں یہ تفسیر بیان کی ہے اور علامہ سید محمود آلوی نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تحقیق حق کا حق ادا کر دیا ہے۔

انہوں نے اس مقام پر وہ احادیث ذکر کی ہیں جن میں قبروں پر مسجدیں بنانے سے منع فرمایا گیا ہے اور لکھا ہے کہ احادیث کا معنی یہ ہے کہ نفس قبر پر مسجد تعمیر کی جائے یا قبر کو موجود الیہ بنایا جائے اور اس کے جواز کا کسی نے قول نہیں کیا اور یہاں ان لوگوں کا ان پر مسجدیں بنانا اس انداز سے نہیں جو منوع ہے اور جس کا قائل ملعون ہے۔ اس کے بعد ان کی عبارت پیش خدمت ہے۔

وَإِنَّمَا هُوَ اتَّخَادُ مَسْجِدٍ عِنْدَهُمْ قَرِيبًا مِّنْ كَهْفِهِمْ وَمِثْلُ هَذَا الْأَتَّخَادُ لَيْسَ مَحْظُورًا إِذْ غَايَةً مَا يُلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ

کہ انہوں نے اس وجہ سے امت مسلمہ پر شرک اور انحراف کا فتوی صادر کیا ہو۔ جب ان تاریخی اور قوی ایام کو منانا جائز ہے بلکہ ایک قبل تعریف اور مستحسن عمل ہے اور اعتراض کرنے والے حضرات بھی بڑے جوش و خروش سے ان میں شرکت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بزرگ تر اور اشرف ترین نعمت کے دنوں کو منانا کیونکر شرک، غوایت اور عقاید اسلامیہ سے انحراف ہو گیا؟ ہم اس اندھے تعصب سے خدا کی پناہ طلب کرتے ہیں۔

..... آٹھواں اعتراض اس حاشیہ پر کیا گیا ہے جو صفحہ نمبر ۲۷۳ پر درج ہے اور جس کا تعلق مندرجہ ذیل آیت سے ہے:

قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخَذُنَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا (۲۱: ۱۸)

(ترجمہ) کہنے لگے وہ لوگ جو غالب تھے اپنے کام پر کہ بخدا ہم تو ضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے۔

مشی علام نے اس آیت پر یہ حاشیہ قلم فرمایا ہے۔

جس میں مسلمان نماز پڑھیں اور ران کے قرب سے برکت حاصل کریں۔ (مارک)

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے مزارات کے قریب مسجدیں بنانا اہل ایمان کا قدیم طریقہ ہے اور قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمانا اور اس کو منع نہ کرنا اس فعل کے درست ہونے کی قوی ترین دلیل ہے۔

مسئلہ: اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے جوار میں برکت حاصل

نَسْبَةُ الْمَسْجِدِ إِلَى الْكَهْفِ الَّذِي هُمْ فِيهِ كَنْسَةٌ الْمَسْجِدُ إِلَى
الْمَرْقَدِ الْمَعْظَمِ عَلَيْهِ صَلَوةٌ (روح المعانی)

یعنی انہوں نے مسجد ان کے غار کے قریب بنائی تھی اور اس طرح کی مسجد
بنانا شریعت میں منوع نہیں اس سے زیادہ سے زیادہ لازم آتا ہے کہ اس مسجد کی
نسبت ان کے غار کی طرف کر دی جائے جس طرح مسجد نبوی کی نسبت حضور سرور
عالم علیہ السلام کے مرقد معظم کی طرف کی جاتی ہے۔

علامہ آلوی کی اس روشن عبارت سے حق واضح ہو گیا۔ شک دور ہو گیا اور
بعینہ یہی چیز ہے جس کو فاضل مجشی نے بیان کیا ہے اور ان کی عبارت علماء کرام کی
تصریحات سے بالکل ہم آہنگ ہے اس لئے کسی شخص کے لئے کیوں کرو رہا ہے کہ
وہ ایسے فاضل جلیل پر شرک اور تحریف کی تہمت لگائے؟

۹..... نواں اعتراض اس حاشیہ پر ہے جس کا تعلق مندرجہ ذیل آیات سے
ہے:

فَلَأَنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مُّثُلُكُمْ يُؤْخَذُ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَإِنْهُ
(آلیۃ ۱۸: ۱۱۰)

انبیاء و رسول کی بشریت کی بحث ابھی گزر چکی ہے، ہم نے تفصیل سے
بیان کیا ہے کہ مترجم اور مجشی دونوں کا یہ اعتقداد ہے جس طرح تمام مسلمانوں کا اعتقاد
ہے کہ انبیاء بشر ہیں اور ابوالبشر آدم علیہ السلام کی ذریت سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ
نے انہیں ایسی خوبیوں سے ممتاز کیا ہے اور ایسے فضائل حمیدہ سے متصف کیا ہے کہ
کسی غیرنبی کے لئے یہ ممکن نہیں کہ ان کمالات و محامد میں ان کا شریک ہو سکے، اللہ

تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت پر فائز کیا ہے، ان پر وحی نازل کی ہے، ان کی رسالت
پر ایمان لانے کو ضروریات دین میں شمار کیا ہے، ان کی اطاعت اور انکی قولی، فعلی
سنتوں کی اتباع کو اپنے بندوں پر واجب قرار دیا ہے، اب کسی غیرنبی کے لئے یہ
جاہز نہیں کہ وہ ان چیزوں سے کسی چیز کا اپنے لیے دعویٰ کرے، جس نے یہ دعویٰ کیا
کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے یا اس پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے یا علیٰ
الاطلاق اس کی اتباع واجب ہے، اس نے افترا کیا خود گمراہ ہوا اور دوسروں کو گراہ
کیا اور راہ حق سے بھٹک گیا۔

مجشی علام نے اس حاشیہ کے پہلے جملہ میں یہ چیز صراحةً سے بیان کی
ہے کہ بشری عوارض اور حالات نبی پر بھی طاری ہوتے ہیں وہ بھوک، پیاس محسوس
کرتا ہے، وہ رُخی ہوتا ہے، وہ بیمار ہوتا ہے جس طرح یہ عوارض حالات دوسرے
انسانوں کو لاحق ہوتے ہیں، لیکن نبوت کی حیثیت سے کوئی شخص بھی ان کی ہمسری
کا دعویٰ نہیں کر سکتا، خواہ معاشرہ میں اس کا مقام کتنا اوپچا ہو اور اس کی قدر و مذلت
کتنی بلند ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم انبیاء و رسول کی تکریم و تعظیم کریں جو
شخص ان کی توہین کرتا ہے اور ان کی تنقیص شان کا ارادہ کرتا ہے وہ خائب و خاسر
ہوتا ہے۔ کفار کو جب ان کے نبی قول حق کی دعوت دیتے اور اللہ تعالیٰ کی توہید پر
ایمان لانے کی طرف بلا تے تو وہ انکار کرتے، سرکشی کرتے اور غصے سے لالی پلیے
ہو کر ان کو بڑا درشت اور سخت اہمیت میں یوں جواب دیتے: مَا أَنْتُمُ الْأَبَشَرُ
مُثُلُنَا كَمَّ هَمَارِي طَرَحَ ہِيَ بَشَرٌ ہُوَ وَهُوَ أَبْنَيْنِ نَبِيٍّ كَمَّ بَشَرٌ كَلْفَظُ تُهِيْنِ اُور تنقیص
کے لئے استعمال کرتے اس لغزش سے بچنے کے لئے ہمیں علماء بانیین نے یہ حکم دیا

اور تاکید کی کہ ہم جب بشر کا لفظ انبیاء کے لئے استعمال کریں تو کسی ایسے کلمہ کا
اضافہ کریں جو تعظیم اور تکریم پر دلالت کرتا ہو۔

۱۰..... وساں اعتراض اس حاشیہ پر ہے جس کا تعلق سورہ محل کی آیت نمبر
۲۵ سے ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

**فُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ وَمَا
يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُعْثُرُونَ (۷۴:۲۵)**

اس تعلیق پر اعتراض کیا گیا کہ یہ شرک اور تحریفات سے آلوہہ اور بریز
ہے، پہلے ہم آپ حضرات کی خدمت میں وہ تعلیق اردو میں پیش کرتے ہیں پھر اس
کا عربی ترجمہ پیش کریں گے اور پھر ادارہ الجوہٹ کے معزز فضلاء سے اس تعلیق کے
بارے میں ان کی رائے دریافت کریں گے۔

”وَهِيَ جَانِنَةُ الْأَلَّاهِيَّةِ غَيْبِ كَا، اس کو اختیار ہے جسے چاہے بتائے، چنانچہ
اپنے پیارے انبیاء کو بتاتا ہے جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے،
**وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكُنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مِنْ
رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ.**

یعنی اللہ کی شان نہیں کہ تمہیں غیب کا علم دے ہاں اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے
اپنے رسولوں میں جسے چاہے اور بکثرت آیات میں اپنے پیارے رسولوں کو غیبی
علوم عطا فرمانے کا ذکر فرمایا گیا، خود اسی پارے میں اس سے اگلے روکوں میں
وارد ہے: **وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.**
یعنی جتنے غیب ہیں آسمان و زمین کے سب ایک بتانے والی کتاب میں

ہیں۔ (اس کے بعد اس کا عربی ترجمہ پیش کیا گیا)

ہم نے ابھی ابھی علم غیب کے مسئلے پر باتفصیل بحث کی ہے اور ہم نے
متترجم و مخشی کی اس مسئلہ کے بارے میں رائے ذکر کی ہے، کہ غیب کا علم اللہ جل
جلالہ کے ساتھ مختص ہے اور کوئی بھی اسے نہیں جان سکتا۔ بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ
اس کو اس کا علم سکھائے۔ ہم نے اس بارے میں گفتگو کی ہے کہ حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود غیب کو نہیں جانتے بلکہ غیب میں سے جتنا اللہ تعالیٰ چاہے اپنے
جیب کو اس کی تعلیم دے دیتا ہے اور یہ بھی ہم نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
علوم غیر متناہی ہیں اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم متناہی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے علم متناہی کی نسبت اللہ تعالیٰ کے غیر متناہی علم کے ساتھ اس نسبت سے بھی بہت
قلیل ہے جو ایک قطرہ آب کو دنیا بھر کے سمندروں کے پانی کے ساتھ ہے پس
شرک کہاں لازم آیا؟۔

اے بزرگ ارکین ادارہ الجوہٹ! بخدا اس شخص کے بارے میں
فرمائیے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، قدیم ہے اور اس کے نبی کا
علم ذاتی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سکھانے سے ہے اور اسی طرح قدیم بھی نہیں حادث
ہے نیز اللہ تعالیٰ کا علم کسی حد تک ختم نہیں ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک محدود حد
سے آگے تجاوز نہیں کر سکتا، جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کیا اسے مشرک کہنا جائز ہے؟۔
اب آخر میں ہم اس دل خراش تقیدی کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرتے
ہیں جس کا تعلق اس حاشیہ سے ہے جو سورہ یاسین کی آیت نمبر ۱۲ پر لکھا گیا ہے شاید
اس دل خراش تقید کا محل، بدعت کی مختلف اقسام کا بیان ہے، لیکن یہ بھی ایک مسئلہ

امر ہے کہ یہ تقسیم مجھی نے خود اختراع نہیں کی بلکہ جید علماء اسلام سے نقل کی ہے مثلاً امام نووی علامہ مالکی قاری، علامہ ابن عابدین اور ان کے علاوہ بے شمار محققین۔

پہلے آپ کی خدمت میں رددالمحتار کی عبارت پیش کرتا ہوں:

إِنَّهَا قَدْ تَكُونُ مُحَرَّمَةً وَقَدْ تَكُونُ وَاجِبَةً كَنْصُبِ الْأَدِلَّةِ لِلرَّدِّ
عَلَى أَهْلِ الْفِرَقِ الصَّالِحَةِ وَتَعْلُمُ النَّحْوَ لِفَهْمِ الْكِتَابِ وَالسُّنْنَةِ وَمَنْدُوبَةَ
كَاحْدَادِ نَحْوِ رِبَاطٍ وَمَدْرَسَةٍ وَكُلِّ إِحْسَانٍ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّدْرِ
الْأَوَّلِ وَمَكْرُوهَةً كَزَخْرَفَةِ الْمَسَاجِدِ وَمَبَاخَةَ كَالْتَوَسُّعِ بِلَذِذِ
الْمَاكِلِ وَالْمَشَارِبِ وَالشَّيَابِ كَمَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلْمُنَاؤِ
عَنْ تَهْذِيبِ النُّوَوِيِّ وَمَثَلُهُ فِي الطَّرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ لِلْبُرْكَلِيِّ.

ترجمہ: علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں کہ بدعت کبھی حرام ہوتی ہے کبھی واجب، جس طرح گمراہ فرقوں کے پیدا کیے ہوئے شبہات کو دور کرنے کے لئے دلائل پیش کرنا یا کتاب و سنت کے سمجھنے کے لئے خواکا پڑھنا اور کبھی مستحب ہوتی ہے جیسے کوئی سرائے یا مدرسہ تعمیر کرنا یا ہروہ نیک کام جو صدر اول میں نہیں کیا گیا اور کبھی مکروہ ہوتی ہے جس طرح مساجد کو بمبالغہ آراستہ کرنا اور کبھی مباح ہوتی ہے جس طرح لذیذ کھانوں اور مشروبات میں تو سیچ اور خوبصورت لباس، جس طرح امام مناوی نے شرح جامع صغیر میں نقل کیا ہے اور اسی طرح برکلی نے طریقہ محمدیہ میں بیان کیا ہے۔

امام نووی نے اپنی مشہور کتاب تہذیب الاسماء واللغات میں کلمہ بدعت کی یوں توضیح کی ہے:

الْبَدْعَةُ بِكَسْرِ الْبَاءِ فِي الشَّرِيعَةِ هِيَ اَخْدَاثٌ مَا لَمْ يَكُنْ فِي
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى حَسَنَةٍ وَقَبِحَةٍ وَقَالَ الشَّيْخُ
الْإِمامُ الْمُجْمَعُ عَلَى اِمَامَتِهِ وَجَلَّتِهِ وَتَمَكَّنَهُ فِي اَنْوَاعِ الْعُلُومِ
وَبَرَاعَتِهِ اَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِالسَّلَامِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ فِي اَخِرِ كِتَابِ الْقَوَاعِدِ الْبَدْعَةُ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى وَاجِبٍ وَمُحَرَّمَةٍ
وَمَنْدُوبَةٍ وَمَكْرُوحةٍ وَمَبَاخَةٍ .

ترجمہ: بدعت بکسر باء شریعت میں ایسی چیز کو پیدا کرنا جو حضور ﷺ کے عہد ہمایوں میں نہ تھی، اس کی دو قسمیں ہیں حسنہ اور سیہہ۔ الشیخ الامام جن کی امامت، جلالت شان اور ہر قسم کے علوم میں مہارت و پختگی پر سب علماء کا اجماع ہے یعنی ابو محمد عبدالعزیز بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ کتاب القواعد کے آخر میں تحریر فرماتے ہیں کہ بدعت کو ان اقسام کی طرف تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ بدعت جو واجب ہے وہ بدعت جو حرام ہے وہ بدعت جو مکروہ ہے وہ بدعت جو مباح ہے۔

فضل مجھی نے علماء اعلام کی تحقیق کی پیروی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بدعت سیہہ وہ ہے جس سے کوئی سنت نبوی ملتی ہو اور اس کے روشن آثار ختم ہوتے ہوں۔

صدقات مالیہ اور اعمال حسنہ کا ایصال ثواب فوت شدہ مسلمانوں کے لئے ہرگز بدعت نہیں، بلکہ یہ سنت ہے جس کا حکم حضور ﷺ نے اپنے صحابہ کو دیا امام بخاری، مسلم نے اپنی صحیحین میں صحیح اسناد کے ساتھ متعدد حدیثیں روایت کی

ہیں، ان میں سے ایک سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے ایک کنواں اپنی والدہ کے لئے کھدوایا جن کا انتقال بغیر وصیت کے ہو گیا اور اس کنوئیں کا نام ”بر ام سعد“ رکھا گیا، اس حاشیہ میں جن امور کا ذکر ہے مثلاً تجوہ، چالیسوائیں، گیارہویں وغیرہ سے، مراد ایصال ثواب کی مختلف صورتیں ہیں، کیوں کہ صدقہ کرنے والوں کو مختلف اوقات میں ایصال ثواب کے لئے فرصت ملتی ہے، بعض وہ ہیں جن کوتیسریے دن فرصت ملتی ہے، بعض کو ساتویں دن، بعض ایسے ہیں جن کو چالیسویں دن اور کسی کو کسی اور دن یہ فرصت مہیا ہوتی ہے اور ہر شخص اپنی سہولت کے مطابق اپنے فرصت کے اوقات میں اس امر مسنون پر عمل پیرا ہوتا ہے بایس اہل سنت میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ موتی کے لئے ایصال ثواب صرف فلاں فلاں مخصوص دن میں ہوتا ہے نہ اس سے پہلے ایصال جائز ہے اور نہ اس دن کے بعد، آپ حضرات پر ہمارے رسول کریم ﷺ کی یہ حدیث مخفی نہیں ہے جسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا:

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا الْمَيْتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا
كَالْغَرِيقُ الْمُتَغَوِّثُ يَنْتَظِرُ دُعْوَةَ تَلْحِقُهُ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ أَخٍ
أَوْ صَدِيقٍ فَإِذَا لَحِقَهُ كَانَ أَحَبُّ الَّذِي مِنَ الدُّنْيَا وَمَا
فِيهَا (الحدیث) رواه البیهقی فی شعب الایمان

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر میں میت کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے ڈوبنے والے فریاد کرنے والے کی ہوتی ہے وہ رسمی دعا کا شدت سے انتظار کرتا ہے جو اسے اپنے باپ، ماں یا بھائی یا دوست کی طرف سے پہنچتی ہے پس

جب اسے یہ دعا پہنچتی ہے تو دنیا و مافیہا سے یہ دعا سے محبوب ہوتی ہے، اس حدیث کو امام تیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، امام مسلم نے اپنی صحیح میں ایک خاص باب رقم کیا ہے جس کا عنوان ہے ”باب وصول ثواب الصدقات الى المیت“ یعنی وہ باب جس میں میت کی طرف صدقات کے ثواب کے پہنچنے کا ذکر ہے اس عنوان کے نیچے انہوں نے متعدد احادیث درج کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے۔

مَا رَوَتْهُ اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أُمِّيَ اُفْتَلَتْ نَفْسُهَا إِنِّي أَظْنَهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقَتْ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ .

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ! میری ماں اچانک فوت ہو گئی اور میرا گمان ہے اگر وہ بات کرتی تو ضرور صدقہ کرتی۔ اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اسے اجر ملے گا؟ حضور نے فرمایا: ہاں

امام نووی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

فِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيْتِ وَاسْتِحْبَابُهَا وَأَنَّ
ثَوَابَهَا يَصِلُّهُ وَيَنْفَعُهُ وَيَنْفَعُ الْمُتَصَدِّقِ أَيْضًا وَهَذَا كُلُّهُ أَجْمَعَ عَلَيْهِ
الْمُسْلِمُونَ .

ترجمہ: اس حدیث سے میت کی طرف سے صدقہ کرنے کا جواز اور اس کا مستحب ہونا ثابت ہوا نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ صدقہ کا ثواب جس کو پہنچایے اس کو نفع

دیتا ہے، صدقہ کرنے والے کو بھی نفع پہنچتا ہے اور یہ ساری بات وہ ہے جس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔

اسی صفحہ پر چند سطریں اور امام نووی لکھتے ہیں:

وَفِيهِ أَنَّ الدُّعَاءَ يَصْلُ ثَوَابَهُ إِلَى الْمَيِّتِ وَكَذِلِكَ الصَّدَقَةُ وَهُمَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِمَا .

اس سے ثابت ہوا کہ دعا کا ثواب میت کو پہنچتا ہے اسی طرح صدقہ کا ثواب بھی میت کو پہنچتا ہے اور یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جن پر سب کا اجماع ہے۔

البتہ اس حاشیہ کی چند آخری سطروں میں تحریک وہابیہ کے بارے میں کچھ ختنی و درشتی پائی جاتی ہے، لیکن اس کی ایک خاص وجہ ہے یہ حوشی سانحہ سال سے زیادہ عرصہ ہوا لکھے گئے، اس وقت تحریک وہابیہ میں بڑا تشدید پایا جاتا تھا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ عقیدہ تو چید پر صرف وہی قائم ہیں، باقی ساری امت اسلامیہ سیدھے، راستے سے بھٹک گئی ہے اور اس نے شرک اور بدعت کو اختیار کر لیا، العیاذ باللہ

اور یہ ایک طبعی امر ہے کہ اس کا رو عمل بھی شدید ہوا، حتیٰ کہ دارالعلوم دیوبند کے کبار علماء نے بھی ایسی کتابیں اور رسائل تالیف لئے جن میں انہوں نے شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کی تالیف الشہاب الثاقب کا مطالعہ فرمائیں۔ لیکن آج حالات اچھے ہو رہے ہیں، الحمد للہ ختنی کی جگہ اب فرائدی اور سوءظن کی جگہ حسن ظن نے لے لی ہے اور اس تبدیلی کے پھل بڑے شیریں ہوں گے، اس کے متاثر اسلام اور اہل اسلام کے لئے نفع بخش ہوں گے۔

مرحوم مغفور الملک افیصل پہلے اسلامی راہنمای جنہوں نے مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور ان کی بکھری ہوئی صفوں کو منظم کرنے کی ضرورت کا احساس کیا انہوں نے عالم اسلام کے گوشہ گوشہ میں بننے والے تمام مسلمانوں کو اسلام کے پرچم کے نیچے جمع ہونے کی دعوت دی۔ انہوں نے بڑی بلند آواز سے یہ فریاد کی اور یہ فریاد ان کے شفیق اور کریم دل کی گھر ایسوں سے بلند ہوئی تھی، اس لئے تمام مسلمان عوام اور اسلامی حکومتیں ان کی اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے مملکت سعودیہ کے اس فرمانزوں کے اس مبارک اقدام سے اختلاف و انشقاق کی شدت میں کمی آنی شروع ہوئی اور حسد اور بغضہ کے انگارے ٹھٹھے ہونے لگے۔

صدقیف! کہ اس فرمانزو اکوپی زندگی کا عزیز مقصد پورا کرنے سے پہلے موت کا پیغام آگیا، لیکن انہوں نے اپنے پیچھے ایسے روشن اور چمکدار آثار چھوڑے کہ ان کے بعد تخت شاہی پر جو بھی متمکن ہوا وہ ان آثار کی پیروی کرتا رہا، اس عزیز اور قیمتی آرزو کو عملی جامہ پہنانے کے لئے وہ آج بھی اپنی امکانی کوششیں صرف کر رہے ہیں، حالات کی اس رفتار کے ساتھ ہمارے دل مطمئن ہو گئے تھے اور حالات بہتر سے بہتر صورت اختیار کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ یہ دھا کہ ہوا اس کی شدید کڑک سے ہم گھبرا گئے اور طرح طرح کے اندیشوں نے از سرنو ہمیں اپنے گھیرے میں لے لیا اور ہم از راہ حیرت و حرست اپنے آپ سے یہ سوال کرنے لگے کہ کیا امت اپنے بلند مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جائے گی؟ اور ان کا باہمی اتحاد عملی صورت اختیار نہیں کر سکے گا اور وہ جانکاہ اور بابرکت کوششیں جو ملک

فیصل اور انکے دارفنا سے دار بقا کی طرف رحلت کرنے والے بھائی نے کیس اور جواب ان کے خلف الرشید جلالۃ الملک فہد بن عبدالعزیز اطال اللہ بقائہ وایام سلطنتہ بڑی گرمجوشی سے کر رہے ہیں کیا یہ سب ضائع ہو جائے گی؟

خبردار! یہ ایک خطرناک سازش ہے جس کے تاریخ پوچھو گئے گار باتھوں نے بنائے۔ اے عالم اسلام کے قائدین! ہوشیار ہو جاؤ۔ اے امت مسلمہ کے عوام بیدار ہو جاؤ۔ اسلام کے دشمن اور تمہارے دشمن کمین گاہ میں بیٹھے تاثر رہے ہیں اور تم پر یکبارگی بہلہ بول دینے کے لئے مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔

والسلام علیکم ورحمة اللہ

مجلس الدعوة الاسلامیہ۔ سیال شریف